



## پارہ 21



## سورہ السجدة



چیلڈس صفحات  
آنھوں کی سطح پر



سورہ السجدة



دوسرے دس صفحات  
گردن کی سطح پر

سورہ  
السجدة  
کی 21 پارہ  
میں  
پوزیشن



رکوعاتہا ۳

(۳۲) سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكْيَّةٌ (۲۵)

ایاتہا ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُ تَعَزِّیْلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۖ

ام - (اس) کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں تمام جہاںوں کے رب کی طرف سے ہے۔

آمُرٰ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا

کیا وہ (یہ) کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) نے خود گھر لیا ہے اسے، (نہیں) بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو

أَنْتُهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ ۲۰ اللّٰهُ

نہیں آپ بھلے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ پداشت پائیں - اللہ (وہ ہے)

الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِی سِتَّةٍ أَيَّامٍ

جس نے پیدا کیا آسماؤں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دونوں میں

ثُمَّ اسْتَوَی عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٰ وَلَا شَفِیْعٌ ط

پھر وہ بلند ہوا عرش پر ، نہ تمہارا اس کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ،

أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۲۱ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ

تو (بجل) کیا تم تصحیح حاصل نہیں کرتے ہو - وہی تدبیر کرتا ہے (ہر) معاملے کی آسمان سے زمین تک پھر

يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارَهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُوْنَ ۲۲

وہ (معاملہ) اوپر جاتا ہے اس کی طرف (ایسے) دن میں جگہ مقدار (ایک) ہزار سال ہے اس (حباب) سے جو تم شمار کرتے ہو۔

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۲۳ الَّذِی أَحْسَنَ

وہ جانشے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو (اور وہی) بہت غالب نہیات رحم کرنے والا ہے - (وہ) جس نے اچھے طریقے سے بنایا

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۲۴ ثُمَّ جَعَلَ

ہر (اس) چیز کو جسے اس نے پیدا کیا اور اس نے شروع کی انسان کی پیدائش مٹی (گارے) سے - پھر اس نے بنا (پیدا کیا)

نَسُلَةً مِنْ سُلْكَةِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۲۵ ثُمَّ سَوَّهُ وَ نَفَخَ فِيهِ

اس کی نسل کو حقیر پانی کے غلاصے سے - پھر اس نے درست کیا اس (کے اعضاء) کو اور پھوٹنی اس میں

مِنْ رُوْجَهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْيَدَةَ ۲۶ قَلِيلًا مَا

اپنی (طرف سے) روح اور اس نے بناے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل (بناے) ، (مگر) بہت ہی کم

تَشَكُّرُوْنَ ۲۷ وَ قَالُوا عَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَإِنَّا

تم شکر کرتے ہو - اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں کیا بیکش ہم

لِفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۲۸ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُوْنَ ۲۹

واقعی نتی پیدائش میں (ظاہر) ہونگے ، (نہیں) بلکہ وہ (تو) اپنے رب کی ملاقات کا (یہ) انکار کرنے والے ہیں۔

کتاب احادیث رب نے

بنائے آسمان و زمین ---

بانی ہرجیراً چھی

کہا: مٹی سے پھر پیدا؟

**قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَّ بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ**

آپ کہہ دیجئے فوت کے گا تمہیں موت کا فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر اپنے رب ہی کی طرف ترجعون ۱۱ وَ لَوْ تَرَى إِذَا الْجِرَمُونَ نَاكِسوْ أَعْوَسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

تم لوٹائے جاؤ گے - اور کاش آپ (اس وقت) دیکھیں جنم لوگوں کو جب بھائے ہوں گے وہ اپنے رسولوں کو اپنے رب کے سامنے، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۱۲

(کہتے ہوں گے) اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے ان لماں و اپنیں (تین ہمیں) کہہ بھائیں عمل کر لیں بیشک ہم (اب آخرت پر بولا) تین کرنے والے میں۔

وَ لَوْ شَعْنَا لَا تَبَيَّنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدِّهَا وَ لِكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ

اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت اور لین کی ہو چکی بات میری طرف سے (کہ)

**لَامَكَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ۱۳ فَذُوقُوا بِمَا**

بلاشہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے - سو (اب آگ کے) مزے پکھو اس وجہ سے جو

**نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هُدَاجِنَّا إِنَّا نَسِيْنَكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَلِدِ بِمَا**

تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو ، بیشک ہم نے (بھی آج) بھلا دیا تمہیں اور تم پکھو ہمیشہ کا عذاب اس وجہ سے جو

**كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۴ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِيمَانِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِهَا**

تم عمل کرتے تھے - بیشک صرف وہی (تو) ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر (کہ) جو جب (بھی) وہ صیحت کیے جاتے ہیں ان (آیات) کیا تھے

**خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۱۵ السَّجْدَةُ تَنَجَّافُ**

(تو) وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور پاکیزی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعظیب کے ساتھ اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں - بدراہتے ہیں

**وَنُوَّبُهُمْ عَنِ الْهَضَابِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَاعًا وَ مِمَّا**

ان کے پہلو بزرگ سے اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے (بھی پکارتے ہیں) اور اس سے جو

**رَزْقُنَّهُمْ يُنْفِقُونَ ۱۶ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفَى لَهُمْ**

ہم نے رزق دیا آئیں وہ خرچ کرتے ہیں - پس کوئی نفس نہیں جانتا (آسے) جو کچھ چھپائی گئی ہے ان کے لیے

**مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنَ حَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۷ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْ**

خشنیک آنکھوں کی ، بدلہ دینے کے لیے اس (عمل) کا جو وہ کیا کرتے تھے - تو (بھلا) کیا جو شخص مومن ہو اس کی طرح (ہو سکتا ہے) جو

**كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ۱۸ أَمَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَ عَمِلُوا الصِّلَاحَتِ فَلَهُمْ**

ہو نافرمان ، وہ برابر نہیں ہو سکتے - رہے (وہ لوگ) جو ایمان لاتے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے

**جَنَّتُ الْهَادِيْنَ نَزَّلَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۹ وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا**

رسنے کے بناた میں بطور مہمانی اس کے پدے جو وہ عمل کیا کرتے تھے - اور رہے (وہ لوگ) جنہوں نے نافرمانی کی

**فَهَا وَلَهُمُ النَّارُ كُلَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا**

تو ان کا ٹھکانا آگ ہی ہے ، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اس سے (تو) وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں

**وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۲۰**

اور کہا جاتے گا ان سے (کہ) پکھو آگ کا وہ عذاب جس کو تم جھلبایا کرتے تھے۔

فاسقوں کو  
دنیوی عذاب بھی

۱۴

دی کتاب موئی کو

سبق لیا بلات سے؟

۱۵

فیصلہ کب ہوگا؟

۱۶

وَ لَنْدِيْقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنِي دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

اور بلاشبہ ضرور ہم چکھائیں گے اپنی قریب ترین (یعنی دنیا کے) نذاب سے پہلے

**لَعَّاهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ**

تاکہ وہ (ہماری طرف) لوٹ آئیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی

**بِأَيْتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا طَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۖ**

اس کے رب کی آیات کے ساتھ پھر اس نے اعراض کیا ان سے ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے میں۔

**وَ لَقُدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْبَيَةٍ**

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے دی موئی کو کتاب پس آپ نہ ہوں تک میں

**مِنْ لِقَاءِهِ وَ جَعْلَنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ**

اس کی ملاقات سے اور ہم نے بنایا اس (کتاب یا موئی کو ذریعہ) پدایت بنی اسرائیل کے لیے۔

**وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِاْمْرِنَا لَهَا صَدَرُوا طَقْ**

اور ہم نے بنائے ان میں سے کئی پیشوا (جو) پدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا ،

**وَ كَانُوا بِأَيْتِنَا يُؤْقِنُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ**

اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے - بیشک آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا انکے درمیان

**يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ أَوْ لَمْ يَهُدِ لَهُمْ**

قیامت کے دن اس (معاملے) میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے - اور کیا (اس بات نے) نہیں رہنمائی کی ان کی (کہ)

**كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَسْتَشُونَ فِي مَسِكِنِهِمْ**

لتھی ہم نے بلاک کر دیں ان سے پہلے امیتیں (اب) یہ پلتے پھرتے میں ان کے گھروں میں ،

**إِنَّ فِي ذِلِّكَ لَآيَاتٌ أَفَلَا يَسْعَوْنَ ۖ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ**

بلاشبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ؟ - اور (بجلہ) کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بیشک ہم ہاںک (یعنی چلا) یہ باتے میں

**الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزَ فَنَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا نَاكُلُ مِنْهُ**

پانی کو چیل زمین کی طرف پھر ہم نکلتے ہیں اس کے ذریعے بھیتی ، کھاتے ہیں اس میں سے

**أَنْعَامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۖ وَ يَقُولُونَ مَتَنِّي**

ان کے چوپائے اور وہ خود (بھی کھاتے ہیں) ، تو (بجلہ) کیا وہ نہیں دیکھتے - اور وہ کہتے ہیں کب ہو گا

**هُذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۖ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ**

فیصلہ اگر ہو تم سچے ؟ - آپ کہہ دیجیے ! فیصلہ کا دن نہیں لفغ دے گا (آن لوگوں کو)

**الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۖ فَأَعْرِضْ**

جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے - پس آپ منہ پھیر لیں

**عَنْهُمْ وَ انتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ۖ**

ان سے اور انتظار کریں بیشک وہ (بھی) انتفار کرنے والے میں۔